

SALTOC Project

Title: Islām aur 'aṣr-i-jadīd

Imprint: Na'ī Dillī: Muḥammad Hafīzuddīn

New Delhi: Zakir Husain Institute of Islamic Studies,  
Jamia Millia Islamia University

OCLC: 6727848

Volume 11, no. 4, October 1979

TOC Supplied By: Center for Research Libraries

Zakir Husain Institute of Islamic Studies,  
Jamia Millia Islamia, Jamia Nagar, New Delhi-110025

اُمَنگوں اور قوتوں میں کمی محسوس ہو تو پڑ مردہ نہ ہو جیے !  
اس کمی کی وجہ آپ کے جسم میں تغذیہ کی خرابی ہے اور یہ اتنی بڑی بات نہیں کہ آپ کو  
زندگی کی بہاروں اور خوشیوں سے لطف اندوز ہونے سے روک دے۔

قوت میں کمی کے پہلے احساس کے ساتھ ہی آپ لحمینہ کا استعمال شروع کر دیجیے۔  
لحمینہ آپ کے جسم کو طاقت و توانائی اور صحیح تغذیہ دینے والے چالیس اہم اجزاء کا  
مرکب ہے، جو اعصاب کو نئی قوت پہنچاتے ہیں اور اعضائے رئیسہ کو تازگی دیتے ہیں۔

اُمَنگوں کی کمی سے  
پڑ مردہ نہ ہو جیے !

مردوں اور عورتوں کے لیے  
لحمینہ -  
جسمانی قوتوں کی بیداری کا نشان

ہمدرد

LAHMINA  
LAHMINA  
MAP-1003 U

## فہرست مضامین

- ۱۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَاتِنٌ  
اداریہ ۵
- ۲۔ آیات حج کی صوتی تفاسیر  
ڈاکٹر محمد خالد مسعود ۱۱
- ۳۔ اسلامی معیشت میں مایاتی پالیسی  
پاکستانی معیشت پر اسلامی مایاتی نظام کا اطلاق  
ڈاکٹر اوصاف احمد ۳۸
- ۴۔ پروفیسر میخائل زند کی شرق شناسی (۲)  
ڈاکٹر کبیر احمد جاشی ۵۱
- ۵۔ ملائقیہ اور اہل ملامت  
ڈاکٹر عبد الحمید زرین کوب  
ترجمہ: ڈاکٹر شعیب اعظمی ۶۶